



کوئی بھی بند جب کوئی گنا کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر طہارت حاصل کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتا ہے میں : میں ایک ایسا شخص تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا، تو اس سے اللہ مجھ جتنا فائدہ پہنچانا چاہتا، پہنچاتا ہے جب آپ کا کوئی صحابی مجھ کوئی حدیث سناتا، تو میں اسے قسم کھانے کو کہتا ہے جب وہ میرے کہنے پر قسم کھا لیتا، تو میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے اور انہوں نے سچ کہا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں سنا ہے : "کوئی بھی بند جب کوئی گنا کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر طہارت حاصل کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے" پھر آپ نے یہ آیت پڑھی : {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} (اور جب کبھی وہ کوئی بڑا گنا کر جائیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں) (سورہ آل عمران : 135)

[صحیح]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی بند کوئی گنا کرتا ہے، پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اپنے اس گناہ سے توبہ کرنے کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی : {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَمْ يَصْرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (اور جب کبھی وہ کوئی بڑا گنا کر جائیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے، جو گناہوں کی مغفرت فرمائے؟ اور اپنے کیا پر جان بوجھ کر اڑے نہیں رہتے) (سورہ آل عمران : 135)

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65063>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

